



## سوال

(401) اللذتک پہنچنے کا راستہ ایک ہے

## جواب

السلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاتہ

موجودہ مذہبی جماعتوں کے ظہور کی کیا وضاحت ہو سکتی ہے؟ جب کہ ہمیں معلوم ہے کہ ہر گروہ کا اپنا اپنا دعوت کا طریقہ ہے اور ہر ایک کی کوشش ہے کہ اقتدار سے حاصل ہو۔ کیا یہ سب فرقے یا ان میں سے بعض فرقے اور جماعتیں اس حدیث کے تحت آتی ہیں۔

(سْتَفْرَقُوا أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ فِرْقَةً كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً)

”میری امت عنقریب تینتر فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی وہ سب فرقے جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے“

ہم ان سب پارٹیوں کو کیسے ایک جگہ جمع کر سکتے ہیں مثلاً انخوان المسلمین، سلفیہ، خلفیہ، جماعت التکفیر والہجرة، تبلیغی، جماعت اور صوفیہ... وغیرہ۔

## الجواب بعون الوهاب بشرط صحة السؤال

و علیکم السلام ورحمة اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

اللہ تعالیٰ کا دین ایک ہے اور اللذتک پہنچنے کا راستہ بھی ایک ہے جو شخص دین اسلام پر قائم ہے اور اس طریقے پر ہے جس پر رسول اللہ ﷺ آئے تھے وہی صحیح ہے۔

هذا ما عندي والله أعلم بالصواب

فتاویٰ دار السلام

ج 1

محدث فتویٰ